

Time: 10 Minutes Paper Math 5 Total Marks: 10

2nd Month, 1st Week, 6th Day | Syllabus: Week-1 Revision)

Q.No.1. Find HCF by prime factorization: (5)

سوال نمبر 1: مفرد تجزی کے ذریعے عاوا عظم معلوم کریں:

- (i) 56, 70 (ii) 18, 30, 90

Q.No.2. Find HCF by division method: (5)

سوال نمبر 2: عاوا عظم بذریعہ تقسیم معلوم کریں:

- (i) 16, 32, 96 (ii) 20, 40, 80

Time: 10 Minutes Paper Math 5 Total Marks: 10

2nd Month, 1st Week, 6th Day | Syllabus: Week-1 Revision)

Q.No.1. Find HCF by prime factorization: (5)

سوال نمبر 1: مفرد تجزی کے ذریعے عاوا عظم معلوم کریں:

- (i) 56, 70 (ii) 18, 30, 90

Q.No.2. Find HCF by division method: (5)

سوال نمبر 2: عاوا عظم بذریعہ تقسیم معلوم کریں:

- (i) 16, 32, 96 (ii) 20, 40, 80

Time: 10 Minutes Paper Math 5 Total Marks: 10

2nd Month, 1st Week, 6th Day | Syllabus: Week-1 Revision)

Q.No.1. Find HCF by prime factorization: (5)

سوال نمبر 1: مفرد تجزی کے ذریعے عاوا عظم معلوم کریں:

- (i) 56, 70 (ii) 18, 30, 90

Q.No.2. Find HCF by division method: (5)

سوال نمبر 2: عاوا عظم بذریعہ تقسیم معلوم کریں:

- (i) 16, 32, 96 (ii) 20, 40, 80

Time: 10 Minutes Paper Math 5 Total Marks: 10

2nd Month, 1st Week, 6th Day | Syllabus: Week-1 Revision)

Q.No.1. Find HCF by prime factorization: (5)

سوال نمبر 1: مفرد تجزی کے ذریعے عاوا عظم معلوم کریں:

- (i) 56, 70 (ii) 18, 30, 90

Q.No.2. Find HCF by division method: (5)

سوال نمبر 2: عاوا عظم بذریعہ تقسیم معلوم کریں:

- (i) 16, 32, 96 (ii) 20, 40, 80
